

## 40296 - ہفتہ کی رات قیام کرنے کی فضیلت میں موضوع حدیث

### سوال

ایک حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ :  
( جس نے ہفتہ کی رات چار رکعات پڑھیں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار اور قل هو اللہ احد پچیس ( 25 ) بار پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر آگ حرام کر دیتا ہے )  
کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ؟

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

یہ حدیث موضوع ہے ، امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے " الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ ص ( 44 ) میں سوال میں مذکور الفاظ کے ساتھ ہی ذکر نے کے بعد کہا ہے کہ : اسے جوزجانی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے ، اور یہ موضوع ہے سند میں ایک مجہول اور ایک متروک راوی پایا جاتا ہے ۔ ا ہ

اور پھر قیام اللیل توسب راتوں میں مستحب ہے اس موضوع حدیث میں ترغیب پر موقوف نہیں ہوا جاسکتا ۔

اللہ جل شانہ کے فرمان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے :

ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں ، جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان سے پوشیدہ کر رکھی ہے کوئی نفس بھی اسے نہیں جانتا جو کچھ وہ عمل کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے السجدة ( 16 - 17 ) ۔

اور فرمان باری تعالیٰ ہے :

بیشک متقی لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے ، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے ، وہ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے ، اور سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کیا کرتے تھے الذاریات ( 15 - 18 ) ۔

اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابوامامہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

( تم رات کا قیام کیا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کی عادت اور تمہارے رب کا قرب اور برائیوں کا کفارہ اور گناہوں کو ختم کرنے والا ہے ) سنن ترمذی حدیث نمبر ( 3549 ) -

علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارواء الغلیل ( 452 ) میں اسے حسن کہا ہے واللہ تعالیٰ اعلم -

واللہ تعالیٰ اعلم .